

# الْمُطَفِّينَ

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

خرابی ہے (ناپ اور تول میں) کمی کرنے والوں کے لئے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ ﴿١﴾

وہ لوگ جو جب ناپ کر لیں لوگوں سے تو پورا لیں۔

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

اور جب ان کو ناپ کر دیں ان کو یا تول کر دیں انہیں تو کم کر کے دیں۔

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

کیا نہیں خیال کرتے یہ لوگ کہ بیشک وہ اٹھائے جانے والے ہیں۔

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

ایک ایسے دن میں جو بڑا سخت ہے۔

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

جس دن کھڑے ہوں گے تمام لوگ رب  
العالمین کے سامنے۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

ہرگز نہیں بیشک اعمال نامے بدکاروں کے  
سجین میں ہونگے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ ﴿٧﴾

اور کیا تم جانتے ہو کہ کیا ہے سجین۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴿٨﴾

ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾

وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو۔

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾

اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی ہے جو حد سے  
نکل جانے والا گنہگار ہے۔

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ  
أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

جب سنائی جاتی ہیں اسکو ہماری آیتیں تو کہتا  
ہے یہ تو افسانے میں پہلے لوگوں کے۔

إِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ  
الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ زنگ ہے انکے

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

دلوں پر اسکا جو (اعمال بد) کھاتے رہے ہیں۔

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ ﴿١٥﴾

ہرگز نہیں بیشک یہ اپنے رب (کے دیدار) سے اس روز اوٹ میں ہوں گے۔

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

پھر بیشک وہ داخل ہوں گے دوزخ میں۔

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

پھر (ان سے) کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے تم جنکو جھٹلاتے تھے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيَيْنَ ﴿١٨﴾

ہرگز نہیں بیشک اعمال نامے نیکوکاروں کے علیین میں ہوں گے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ ﴿١٩﴾

اور کیا تمکو معلوم کہ کیا چیز ہے علیین۔

كِتَابٍ مَّرْقُومٍ ﴿٢٠﴾

ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

جنکے پاس حاضر ہوتے ہیں مقرب فرشتے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

بیشک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔

تختوں پر (بیٹھے ہوئے) نظارے کریں گے۔

عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾

تم معلوم کر لو گے ان کے چہروں ہی سے  
تازگی نعمت کی۔

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ  
النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

ان کو پلائی جائے گی شراب خالص سربہر۔

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

جسکی مہر مشک کی ہوگی۔ اور (چاہیے کہ)  
اسی کی رغبت کریں رغبت کرنے والے۔

خِتْمُهُ مِسْكَ ط وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ  
الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾

اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔

وَمِنْ أَجْهٍ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾

وہ ایک چشمہ ہے پئیں گے جس میں سے  
(اللہ) کے مقرب بندے۔

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾


بیشک وہ لوگ جنہوں نے جرم کئے کیا کرتے  
تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنسی۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ  
أَمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾

اور جب گذرتے انکے پاس سے تو حقارت  
سے اشارے کرتے تھے۔

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿٣٠﴾

اور جب لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف  
تو لوٹتے تھے اتراتے ہوئے۔

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا  
فَكِهِينَ <sup>ص</sup> 

اور جب ان کو (یعنی مومنوں) کو دیکھتے تو  
کہتے تھے بیشک یہ لوگ گمراہ ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ  
لَضَالُّونَ <sup>ل</sup> 

حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے (یعنی کافر)  
ان (مومنوں پر) پر نگراں بنا کر۔

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ <sup>ل</sup> 

تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کافروں  
پر ہنسیں گے۔

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ  
يَضْحَكُونَ <sup>ل</sup> 

بلند مسندوں پر بیٹھے ہوئے (ان کا حال)  
دیکھ رہے ہوں گے۔

عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ <sup>ط</sup> 

کیا پورا بدلہ مل گیا کافروں کو اسکا جو یہ  
کرتے تھے۔

هَلْ تُؤْتُونَ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا  
يَفْعَلُونَ <sup>ع</sup> 